


cellularline

10000 MAG WIRELESS POWER BANK

- 10000MAH PORTABLE BATTERY CHARGER
CARICABATTERIE PORTATILE DA 10000MAH
CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE 10000MAH
PORTABLES AKKU-LADEGERÄT ZU 10000MAH
CARGADOR DE BATERÍAS PORTÁTIL DE 10000MAH
TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI 10000MAH
DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 10000MAH
KANNETTAVA AKKULATURI 10000MAH
شاحن متنقل 10000 مللي امبير-ساعة



- Package includes: PBMAGSF10000WIRK USB-C to USB-C charging cable Instruction manual Description: 1 PAD 2 LED 3 power key 4 USB-C power cable
Contenido della confezione: PBMAGSF10000WIRK USB-C to USB-C charging cable Manuale d'istruzione Descrizione: 1 PAD 2 LED 3 Tasto Power 4 Cavo di alimentazione USB-C
Contenu de l'emballage: PBMAGSF10000WIRK Câble de chargement de USB-C à USB-C Manuel d'instructions Description: 1 PAD 2 Voyants 3 Bouton Marche 4 Câble d'alimentation USB-C
Paketinhalt: PBMAGSF10000WIRK USB-C-auf USB-C Ladekabel Gebrauchsanweisung Beschreibung: 1 PAD 2 LED 3 Einschalttaste 4 USB-C Versorgungskabel
Contenido del paquete: PBMAGSF10000WIRK Cable de carga USB-C a USB-C Manual de instrucciones Descripción: 1 PAD 2 LEDs 3 botones de encendido 4 cables USB-C
Inhoud verpakking: PBMAGSF10000WIRK USB-C-naar-USB-C-oplaadkabel Handleiding Beschrijving: 1 PAD 2 LED 3 powerknop 4 USB-C-voedingskabel
Kuvaus: PBMAGSF10000WIRK Latausjohto USB-C-USB-C Käyttöohje Kuvaus: 1 PAD 2 LED-merkkivalo 3 Power-näppäin 4 Virtajohto USB-C

EN - PRELIMINARY OPERATIONS
PBMAGSF10000WIRK charges via the USB-C to USB-C cable provided, connected to the charger with a USB-C PD 20W or more powerful port. The gradual illumination of the LEDs indicates the battery charging level.
Connect PBMAGSF10000WIRK to the telephone, press the power key and after a few seconds, the phone display will show the battery charging level.
NOTE: specific cases can also be used for charging.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacity: 10000mAh – 38.5Wh
Frequency: 110 kHz - 205 kHz
(USB-C) Input: DC 5V/3A, 9V/2A
(USB-C) Output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output: 10W
Weight: 205g

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI
PBMAGSF10000WIRK si ricarica tramite il cavo USB-C to USB-C in dotazione collegato ad un caricatore che prevede una porta USB-C PD 20W e o superiore.
L'accensione progressiva dei led indica lo stato di carica della batteria.
Connettere PBMAGSF10000WIRK al telefono, premere il tasto power e dopo pochi secondi il display del telefono visualizzerà lo stato di carica della batteria.
NOTA: la ricarica è consentita anche utilizzando custodie dedicate.
SPECIFICHE TECNICHE
Capacità: 10000mAh – 38.5Wh
Frequenza: 110 kHz - 205 kHz
Input (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output: 10W
Peso: 205g

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
PBMAGSF10000WIRK se recharge au moyen du câble de USB-C à USB-C inclus, branché à un chargeur qui prévoit un port USB-C PD 20 W ou supérieur.
L'allumage progressif des voyants indique le niveau de charge de la batterie.
Brancher PBMAGSF10000WIRK au téléphone, appuyer sur le bouton Marche et, quelques secondes après, l'écran du téléphone affichera le niveau de charge de la batterie.
REM. - Le rechargement est possible aussi en utilisant les étuis prévus à cet effet.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité : 10000mAh – 38.5Wh
Fréquence : 110 kHz - 205 kHz
Entrée (USB-C) : DC 5V/3A, 9V/2A
Sortie (USB-C) : DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie sans fil : 10W
Poids : 205g

DE - VORBEREITENDE EINGRIFFE
PBMAGSF10000WIRK lädt sich auf, indem man das mitgelieferte USB-C-auf USB-C Kabel an ein Ladegerät anschließt, das über einen USB-C-Anschluss mit 20 W Leistungsabgabe oder mehr verfügt.
Die Reihe der leuchtenden LEDs zeigt den Ladestand der Batterie an.
PBMAGSF10000WIRK an das Telefon anschließen, die Einschalttaste drücken, und nach ein paar Sekunden zeigt das Display des Telefons den Ladestand der Batterie an.
HINWEIS: Das Laden ist auch mit speziellen Ladeboxen möglich.
TECHNISCHE DATEN
Kapazität: 10000mAh – 38.5Wh
Frequenzgang: 110 kHz – 205 kHz
Eingangsspannung (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A
Ausgangsspannung (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kabelfreie Ausgangsleistung: 10W
Gewicht: 205g

ES - OPERACIONES PRELIMINARES
PBMAGSF10000WIRK se recarga mediante el cable USB-C a USB-C suministrado, conectado a un cargador con un puerto USB-C PD de 20 W o superior.
El encendido progresivo de los LEDs indica el estado de carga de la batería.
Conectar PBMAGSF10000WIRK al teléfono, pulsar el botón de encendido y después de unos segundos la pantalla del teléfono mostrará el estado de carga de la batería.
NOTA: la carga también es posible utilizando fundas específicas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad: 10000mAh – 38.5Wh
Frecuencia: 110 kHz - 205 kHz
Entrada (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A
Salida (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida inalámbrica: 10W
Peso: 205g

TR - BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ
PBMAGSF10000WIRK USB-C PD 20W veya daha güçlü birli ile şarj cihazına bağlanarak, verilen USB-C - USB-C kablosu ile şarj olur.
LED'lerin kademeli yanması pilin şarj düzeyini gösterir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite: 10000mAh – 38.5Wh
Frekans: 110 kHz - 205 kHz
USB-C girişi: DC 5V/3A, 9V/2A
USB-C çıkışı: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kablosuz güç: 10W
Ağırlık: 205g

NL - VOORGAANDE HANDELINGEN
De PBMAGSF10000WIRK wordt opgeladen via de meegeleverde USB-C-naar-USB-C-kabel, die aangesloten is op een lader met USB-C-PD-poort voor 20 W of hoger.
De leds gaan eerst voor één branden en geven daarmee de laadstatus van de batterij weer.
Sluit de PBMAGSF10000WIRK aan op uw telefoon, druk op de powerknop en na een paar seconden zal op het display van uw telefoon de laadstatus van de batterij verschijnen.
OPMERKING: opladen met gebruik van speciale hoesjes is ook toegestaan.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Vermogen: 10000mAh – 38.5Wh
Frequentie: 110 kHz - 205 kHz
Input (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Draadloze output: max. 10W
Gewicht: 205g

FI - ESITOIMENPITEET
PBMAGSF10000WIRK ladetaan käyttämällä varustuksiin kuuluvaa latausjohtoa USB-C - USB-C, joka on liitetty laturiin, jossa on USB-C PD-portti 20 W tai uudempi.
Led-valojen astellattainen syttyminen osoittaa akun latautumistilasta. Liitä PBMAGSF10000WIRK puhelimellen, paina power-näppäintä ja muutaman sekunnin kuluttua puhelimellen näytöllin ilmestyy akun lataustila.
HUOMAUTUS: lataus on sallittu myös käyttämällä tarkoituksenmukaisia kotelaita.
TEKNISTIEDOT
Kapasiiteetti: 10000mAh – 38.5Wh
Taajuus: 110 kHz - 205 kHz
Tulovirta (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A
Lähtövirtä (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Langaton lähtövirtä: 10W

العربية - العمليات الأولية
تُشحن PBMAGSF10000WIRK عن طريق توصيل الكابل المرفق، من يو إس بي سي «USB-C» إلى يو إس بي سي «USB-C»، بشاحن محوّل بمقدار يو إس بي سي «USB-C» بتكنولوجيا توصيل الطاقة 20 واط أو أعلى.
الإضاءة المتزايدة للمؤشرات الضوئية يشير إلى حالة شحن البطارية.
وصل PBMAGSF10000WIRK بالهاتف، واضغط على زر الطاقة، وبعد ثوانٍ قليلة سيظهر على شاشة الهاتف مقدار شحن البطارية.
ملاحظة: الشحن مسموح أيضاً أثناء استعمال حرايات مخصصة.
المواصفات التقنية
السعة: 10000 مللي أمبير-ساعة – 38.5 واط ساعة
التردد: 110 كيلو هرتز – 205 كيلو هرتز
مدخل (يو إس بي سي «USB-C»): تيار مستمر 5 فولت/3 أمبير، 9 أمبير/2 فولت
مخرج (يو إس بي سي «USB-C»): تيار مستمر 5 فولت/3 أمبير، 9 أمبير/2 فولت، 12 فولت/1.5 أمبير
الخرج اللاسلكي: 10 واط
الوزن: 205 جم

العربية - معلومات حول الضمان
نُشرنا منتجاتنا مع ضمان قانوني وفقاً للقوانين المعمول بها في بلدنا.
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala
TR - YASAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİLER
Ürünümüzü, tüketici korumasına ilişkin yürürlükteki milli kanunlar bağlamında (üreticilerle ilgili mevzuatla ilgili olarak) garantiye sunuyoruz.
Bizim ürünlerimizi, tüketici korumasına ilişkin yürürlükteki milli kanunlar bağlamında (üreticilerle ilgili mevzuatla ilgili olarak) garantiye sunuyoruz.
Daha fazla bilgi için www.cellularline.com/en/garanzia-legala sayfasına bakınız.

FI - LAKISAÄTISEN TAKUUSEN LITTYVÄÄ TIETOA
Tietoa tuotteesta ja sen takuusta on saatavilla verkkosivustollamme.
Terveystietoa ja tuoteselityksiä on saatavilla verkkosivustollamme.
Tietoa tuotteesta ja sen takuusta on saatavilla verkkosivustollamme.
Terveystietoa ja tuoteselityksiä on saatavilla verkkosivustollamme.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

IT - ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE PER UTENTI DOMESTICI (Applicable in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sui prodotti o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.



EN - Cellularline S.p.A. declares that this wireless charger complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following Internet address: www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. dichiara altresì che questo wireless charger è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet : www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. dichiara altresì che questo wireless charger è conforme alla direttiva 2011/65/EU aggiornata dalla 2015/863/EU.
FR - Cellularline S.p.A. déclare que ce chargeur sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse Internet suivante : www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. déclare également que ce chargeur sans fil est conforme à la directive 2011/65/UE mise à jour par la directive 2015/863/EU.
DE - Cellularline S.p.A. erklärt, dass dieses Qi-Ladegerät der Verordnung 2014/53/UE entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. erklärt außerdem, dass dies Qi-Ladegerät der Verordnung 2011/65/EU entspricht, die durch die Verordnung 2015/863/EU aktualisiert wurde.
ES - Cellularline S.p.A. declara que este cargador wireless se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. también declara que este cargador wireless cumple con la directiva 2011/65/UE actualizada por 2015/863/EU.
TR - Bu kablosuz şarj cihazının 2014/53/UE yönergesine uygunluğu Cellularline S.p.A tarafından bildirilmektedir.
Yükümlük Beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A ayrıca bu kablosuz şarj cihazının 2011/65/UE'den güncellenen 2015/863/UE yönergesine uygun olduğunu bildirmektedir.
NL - Cellularline S.p.A. verklaart dat deze draadloze oplader voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. verklaart tevens dat deze draadloze oplader voldoet aan Richtlijn 2011/65/UE, zoals bijgewerkt bij Richtlijn 2015/863/EU.
FI - Cellularline S.p.A. vakuuttaa, että tämä langaton laturi on direktiivin 2014/53/UE mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa seuraavasta Internet-sivustosta: www.cellularline.com/\_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A. vakuuttaa myös, että tämä langaton laturi on direktiivin 2011/65/UE, päivitetty 2015/863/EU mukainen.

FR - INSTRUCTIONS POUR LE DÉMANTÈLEMENT DES APPAREILS POUR LES UTILISATEURS À DOMICILE (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans ceux appliquant le système de collecte sélective)
Le symbole figurant sur le produit ou sur la documentation correspondante, indique que le produit ne doit pas être éliminé comme déchet ordinaire au terme de sa durée de vie. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé dus à l'élimination incorrecte des déchets, nous invitons l'utilisateur à séparer ce produit d'autres types de déchets et de le recycler de façon responsable pour en favoriser la réutilisation des ressources matérielles.
Les particuliers sont priés de prendre contact avec le revendeur du produit ou les services locaux compétents pour obtenir des informations nécessaires quant à la collecte sélective et au recyclage de ce type de produit. Les entreprises sont également priées de contacter leur fournisseur et de vérifier les conditions visées dans le contrat de achat. Le produit en question ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets commerciaux.
En cas de doute, veuillez contacter le fabricant et le revendeur du produit ou l'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie contenue à l'intérieur du dispositif a été conçue pour durer autant que le produit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web http://www.cellularline.com

ES - INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USO DOMÉSTICO (Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)
La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado el producto o a la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser eliminado con otros residuos comerciales. Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo ni quitar la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso de eliminación del producto le rogamos que contacte el ente local de eliminación de residuos para efectuar la recogida de la batería. La batería que se encuentra en el interior del dispositivo ha sido proyectada para poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.
Para mayor información visítate el sitio web http://www.cellularline.com

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala



EN - INFORMATION ON THE STATUTORY WARRANTY
This product is covered by a statutory warranty against conformity defects in accordance with applicable national consumer protection laws.
For more information, please see the following page
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

IT - INFORMAZIONE SULLA GARANZIA LEGALE
I nostri prodotti sono coperti da garanzia legale per i difetti di conformità secondo quanto previsto dalle leggi nazionali applicabili a tutela del consumatore.
Per ulteriori informazioni consultate la pagina:
www.cellularline.com/it-it/garanzia-legala

FR - INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LÉGALE
Nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité selon les lois nationales applicables en matière de protection du consommateur.
Pour en savoir plus, consultez la page www.cellularline.com/en/garanzia-legala

DE - INFORMATIONEN ZUR GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN GARANTIE
Unsere Produkte sind gemäß den Vorschriften der örtlichen Verbraucherschutzgesetze durch eine gesetzliche Garantie für Konformitätsmängel gedeckt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.cellularline.com/en/garanzia-legala

ES - INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LEGAL
Nuestros productos están cubiertos por una garantía legal por defectos de conformidad, conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales aplicables para la protección del consumidor. Para más información, consulte la página:
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

TR - YASAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİLER
Ürünlerimiz, tüketici korumasına ilişkin yürürlükteki milli kanunlar bağlamında (üreticilerle ilgili mevzuatla ilgili olarak) garantiye sunuyoruz.
Bizim ürünlerimizi, tüketici korumasına ilişkin yürürlükteki milli kanunlar bağlamında (üreticilerle ilgili mevzuatla ilgili olarak) garantiye sunuyoruz.
Daha fazla bilgi için www.cellularline.com/en/garanzia-legala sayfasına bakınız.

NL - INFORMATIE OVER DE WETTELIJKE GARANTIE
Ons producten vallen onder een wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken volgens de toepasbare nationale wetgeving voor consumentenbescherming.
Voor meer informatie kunt u surfen naar de pagina
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

FI - LAKISAÄTISEN TAKUUSEN LITTYVÄÄ TIETOA
Tietoa tuotteesta ja sen takuusta on saatavilla verkkosivustollamme.
Terveystietoa ja tuoteselityksiä on saatavilla verkkosivustollamme.
Tietoa tuotteesta ja sen takuusta on saatavilla verkkosivustollamme.
Terveystietoa ja tuoteselityksiä on saatavilla verkkosivustollamme.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

IT - ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE PER UTENTI DOMESTICI (Applicable in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sui prodotti o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

EN - INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL OF DEVICES FOR DOMESTIC USE (Applicable in countries in the European Union and those with separate waste collection systems)
This mark on the product or documentation indicates that this product must not be disposed of with other household waste at the end of its life. To avoid any damage to health or the environment due to improper disposal of waste, the user must separate this product from other types of waste and recycle it in a responsible manner to promote the sustainable re-use of the material resources.

ES - INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USO DOMÉSTICO (Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)
La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado el producto o a la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser eliminado con otros residuos comerciales. Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo ni quitar la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso de eliminación del producto le rogamos que contacte el ente local de eliminación de residuos para efectuar la recogida de la batería. La batería que se encuentra en el interior del dispositivo ha sido proyectada para poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.
Para mayor información visítate el sitio web http://www.cellularline.com

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com/en/garanzia-legala

TR - EVDE KULLANIMA YÖNELİK HAZIRLAN BERATARAFI İÇİN TALİMATLAR
(Arzuğu Birli ükeleri ile ayrıntıların toplama sistemlerine sahip ökellerde geçerlidir) Ürünün veya belgelerinin üzerinde yer alan bu işaret, kullanım ömrünü tanımladığına söz konusu üründe işbir et atıklarına birlikte bertaraf edilmesini gerektirir. Aklıkların uygunus şekilde bertaraf edilmesi sonucunda çevre ve sağli üzerinde meydana gelebilecek zararların önlenmesi amacıyla kullanımın bu ürünü diğer etik bilgilerinden ayrı olarak saklaması ve malzeme kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını özendirmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürme önerilmektedir.
Eğer kullanıcılar bu tip ürünleri ayrı toplaması ve geri dönüştürmesiyle ilgili tüm bilgiler konusunda ürünü satın aldıkları satıcıya veya bulunduğları yerdeki daireye bağlantı kurmaya vadedir. Şirket ürünlerin kendi yetenekleriyle bağlantı kurmaya ve almı sözleşme şart ve koşulların kontrol etmeye vadedir. Bu ürün diğer ticari aktarılar birlikte bertaraf edilmemelidir.
Bu ürünün içinde kullanıcı tarafından değiştirilemeyen bir batarya bulabilir; cihaz açmaya veya bataryayı çıkarmayın, bu uygunsuzdur. Ürünleri açmaya veya ciddi hasar yo açabilir. Ürünün bertaraf edilmesi halinde bataryanın çıkarılması iş bulduğunuz yerdeki etik bertaraf firmasına bağlantı kurmanız rica edilir. Cihazın içinde bulunan batarya, ürünü tüm kullanım ömrü boyunca kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi almak için http://www.cellularline.com/web sitesini ziyaret ediniz.

NL INSTRUCTIES VOOR DE VERNIETIGING VAN APPARATUUR VOOR HUISHOUDELIJKE GEBRUIKERS
(Van toepassing in de landen van de Europese Unie en in landen met systeem voor gescheiden inzameling)
De op het product of op zijn verpakking afgebeelde markering geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval vernietigd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van een ongeschikte vernietiging van afval te voorkomen, wordt de gebruiker verzocht dit product van andere soorten afval te scheiden en het op een verantwoorde wijze te recyclen om een duurzaam gebruik van de materialen te bevorderen.
De huishoudelijke gebruikers worden verzocht contact op te nemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke instantie voor alle informatie inzake de gescheiden inzameling en de recycling voor dit type product. Zakeijke gebruikers worden verzocht contact op te nemen met hun leverancier en de regels en voorwaarden van het koopcontract te controleren. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval vernietigd worden. Dit product bevat een batterij die niet door de gebruiker vervangen kan worden; probeer niet het apparaat te openen of de batterij te verwijderen omdat dit storingen en eventuele schade van het product kan veroorzaken. In geval van vernietiging van het product wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor de verwijdering van de batterij. De batterij van het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt gedurende de gehele levensduur van het product.
Ga voor meer informatie naar ons website http://www.cellularline.com

FI - OHIEHT KOTILAAN KÄYTTÖSSÄ OLEVIAIN LAITTEIDEN HÄVÄTÄMISESTÄ
(Sovellettavissa Euroopan unionin jäsenmaissa ja maissa, joissa on erilliset jätteenkeräysjärjestelmät)
Tuotteesta tai tuotteen asiakirjoissa löytyä merkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa käyttöönsä päätyttyä hävittää yhdessä muuten kotitalousjätteen kanssa. Jotta jätteen virheellisesti hävityksestä johtuvat ympäristö- tai terveyshaitat vältettäisiin, käyttäjän on erotettava tämä tuote muista jätteyyteistä ja kierrättävä se vastuullisesti luonnonvarojen kestävällä uudelleenkäytöllä varuten. Henkilöasiakkaita kehoitetaan ottamaan yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen asiainkuluvuun tahoon saadakseen kaikki tarvittavat tiedot tämmöntyypisen tuotteen erittämistä keräyksestä ja kierrätyksestä. Yrityssasiakkaita kehoitetaan ottamaan yhteyttä omaan tavaramyymälänsä ja tarkistamaan myymälän myyntiehdotukset. Tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kaupallisten jätteen kanssa.
Käyttäjää ei voi vaihtaa tuotteen sisällä olevaa paristoa. Jos laitea koetetaan avata tai paristo koetetaan poistaa, vaarana on toimintahäiriöt tai vakavat vauriot. Otta yhteyttä paikalliseen jätteen hävitykskeskukseen postitseksi pariston, kun tuote on hävittävä. Laitteen sisällä oleva paristo on suunniteltu kestämään tuotteen koko käyttöajan.
Jos haluat lisätietoja, käy verkkosivulla http://www.cellularline.com

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com
العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com

EN - Use the battery charger only as instructed in the packaging
Must be powered using a suitable battery charger
Protect the product from dirt, humidity, overheating and use only in dry environments, avoiding all contact with liquids
Do not expose to the sun, high temperatures or flames
If the cable is dropped, ensure it is not damaged before using it again
Keep far from the reach of children
IT - Utilizzare il caricabatterie solo come indicato nella confezione
Alimentare solo con un caricabatterie idoneo
Proteggere il prodotto da polvere, umidità, surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti evitando il contatto con liquidi
Non esporre al sole, ad alte temperature o al fuoco
In caso di caduta, assicurarsi che il prodotto sia integro prima di riutilizzarlo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
FR - Utiliser le chargeur en suivant les instructions de l'emballage.
Alimenter uniquement avec un chargeur compatible
Protéger le produit de la saleté, de l'humidité, de la surchauffe et l'utiliser uniquement dans des endroits secs pour éviter le contact avec des liquides.
Ne pas exposer au soleil, aux hautes températures ou au feu.
En cas de chutes, contrôler l'intégrité du produit avant de le réutiliser.
Conserver hors de portée des enfants.
ES - Exclusivamente el cargador de baterías como se indica en el envase
Alimentar solo con un cargador de baterías idoneo
Proteger el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y sólo solo en ambientes secos evitando el contacto con los líquidos
No lo exponga al sol, a las altas temperaturas ni al fuego
En caso de caída, asegurarse de que el producto está íntegro antes de volver a utilizarlo
Manténgalo fuera del alcance de los niños
TR - Şarj cihazını yalnızca ambalajında gösterildiği gibi kullanın
Yalnızca uygun bir şarj cihazıyla beslemeye uygun
Ürünü kir, nem, ısıtımına karşı koruyun ve sıvılarla temasını önleyerek yalnızca kuru ortamlarda kullanın
Güneş ve yüksek sıcaklıklara ya da ateşe maruz bırakmayın
Dünyevi halinde yeniden kullanımdan önce ürünü sağlam olduğundan emin olun
Çocukların erişimeceklere yerinde saklayın
NL - Gebruik de batterijlader alleen zoals aangegeven in de verpakking
Alleen voeden met een geschikte batterijlader
Bescherm het product tegen vuil, vocht, oververhitting, gebruik het alleen in droge omgevingen en vermijd elk contact met vloeistoffen
Niet blootstellen aan direct zonlicht, hoge temperaturen of vuur
Mocht het product verval, controleer dan of het intact is alvorens het weer te gebruiken
Houd buiten bereik van kinderen
FI - Käytä akkulaturia vain pakkausissa kerrotulla tavalla.
Lataa vain soveltuvalta akkulaturilla.
Suojaa tuote ilmalta, kosteudelta ja ylikuumentamiselta ja käytä sitä vain kuivissa ympäristöissä: vältä kosketusta nesteillä.
Älä altista auringolle, korkealle lämpötilalle tai tulelle.
Jos tuote putoaa, varmista, että se on ehjä ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Pidä lasten ulottamattomissa.
العربية - معلومات حول الضمان القانوني
نقدم لكم معلومات حول الضمان القانوني.
تتمتعنا بمعاملة قانوني مضمون مع عرب المملكة وقوانينها مع ضماننا.
المزيد من المعلومات زرة الصفحة التالية.
www.cellularline.com



cellularline

## 10000 MAG

### WIRELESS POWER BANK

**(SV)** BÄRBAR BATTERILADDADE OM 10000MAH

**(DA)** BÆRBAR BATTERIPLADER PÅ 10000MAH

**(NO)** BÆRBAR BATTERILADER PÅ 10000MAH

**(PT)** CARREGADOR DE BATERIAS PORTÁTIL DE 10000MAH










**(CS)** PŘENOSNÁ NABÍJEČKA 10000MAH

**(SL)** PRENOSNI POLNILNIK BATERIJ 10000MAH

**(HR)** PRIJENOSNI PUNJAČ BATERIJA OD 10000MAH

**(BG)** ПРЕНОСИМО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 10000MAH

**(EL)** ΦΟΡΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ 10000ΜΑΗ



**SV - FÖRBÄRANDE ÅTGÄRDER**  
PBMAGSF10000WIRK laddas via den medföljande USB-C till USB-C-kabeln som är ansluten till en laddare som används en USB-C PD-port 20W och högre.

Påslagningen av lysdioderna visar batteriets laddningsstillstånd. Anslut PBMAGSF10000WIRK till telefonen, tryck på strömknappen och efter några sekunder visas batteriets laddningsstatus på telefonens skärm.

QBS: laddning är även tillåtet med lämpligt fodral.

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**  
Kapacitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvens: 110 kHz - 205 kHz  
Inspänning USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A  
Utteffekt USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Trådlös utteffekt: 10W  
Vikt: 205g

**DA - INDLEDNINGSVIST**  
PBMAGSF10000WIRK genoplades ved brug af det medfølgende USB-C-kabel til USB, der er forbundet til en oplader forsynet med USB-C PD 20W port og/eller stærkere.

Lysdiødernes progressive tænding angiver batteriets opladningsstand.  
Forbind PBMAGSF10000WIRK til telefonen, tryk på tændingsstaden og efter få sekunder viser telefonens display batteriets opladningsstand.

BEMÆRK: Genopladningen er også mulig ved brug af de dedikerede hylstre.  
**TEKNISKE DATA**  
Kapacitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvens: 110 kHz - 205 kHz  
(USB-C) indgang: DC 5V/3A, 9V/2A  
(USB-C) udgang: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Trådløs udgang: 10W  
Vægt: 205g

**NO - FORBEREDELSE**  
PBMAGSF10000WIRK lades opp ved hjelp av en USB-C-kabel som følger med og som kobles til en lader med USB-C-port PD 20W eller høyere.

Gradvis tenning av lysdiodene viser ladestatusen til batteriet. Koble PBMAGSF10000WIRK til telefonen, trykk inn på-knappen så vil displayet på telefonen etter få sekunder vise ladestatusen til batteriet.

MERK: man kan også lade med egne etuier.

**TEKNISKE SPECIFIKASJONER**  
Kapasitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvens: 110 kHz - 205 kHz  
Inngang (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Utgang (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A  
Trådløs utgang: 10W  
Vekt: 205g

**PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES**  
PBMAGSF10000WIRK carrega-se através do cabo USB-C para USB-C fornecido ligado a um carregador equipado com uma porta USB-C PD 20W ou superior.

A iluminação progressiva dos leds indica o estado de carga da bateria.  
Ligar o PBMAGSF10000WIRK ao telemóvel, premir o botão power e após alguns segundos o ecrã do telemóvel exibirá o estado de carga da bateria.

NOTA: o carregamento também é permitido mediante caixas de carregamento específicas  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**  
Capacidade: 10000mAh – 38.5Wh  
Frequência: 110 kHz - 205 kHz  
Entrada (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Saída (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Saída wireless: 10W  
Peso: 205g

**CS - PRÍPRAVA**  
PBMAGSF10000WIRK dobija se pomoći kablu USB-C na USB-C ktery je součástí připojeným k nabíječce s portem USB-C PD 20W nebo vyšším.

Postupně rozsvícení led diod udává stav nabíjí baterie.  
Připojte PBMAGSF10000WIRK k telefonu, stiskněte tlačítko power a za několik vteřin zobrazí displej na telefonu stav nabíjí baterie.

POZNÁMKA: nabíjení je možné také s použitím k tomu určených pouzder.  
**TECHNIČKE SPECIFIKACE**  
Kapacita: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvenci pásmo: 110 kHz - 205 kHz  
Vstup (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Wireless Výstup: 10W  
Hmotnost: 205g

**SL - UVODNI POSTOPKI**  
Naprava PBMAGSF10000WIRK se polni prek priloženega polnilnega kabla USB-C na USB-C, ki je povezan s polnilnikom, opremljenim z vhodom USB-C PD 20W ali večjo.

Vključ lučke LED pomeni, da poteka polnjenje baterije.  
Napravo PBMAGSF10000WIRK povežite s telefonom, pritisnite tipko za vklop in po nekaj sekundah, da se bo na zaslonu telefona prikazalo stanje napojenosti baterije.

OPOMBA: polnjenje je mogoče tudi ob uporabi ustreznih ovitkov.  
**TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE**  
Zmožljivost: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvenca: 110 kHz - 205 kHz  
Vhodna moč (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Izhodna moč (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Izhod Wireles: najv. 10W  
Teža: 205g

**HR - PRELIMINARNE RADNJE**  
PBMAGSF10000WIRK puni se putem isporučenoj USB-C na USB-C kabele spojenog na punjač koji uključuje USB-C PD priključak 20 W i više.

Progresivno osvetljenje LED-a pokazuje stanje napunjenosti baterije.  
Spojite PBMAGSF10000WIRK na telefon, pritisnite tipku za napajanje i nakon nekoliko sekundi na zaslonu telefona prikazaat će se stanje napunjenosti baterije.

NAPOMENA: punjenje je također dopušteno pomoću namjenskih kućišta.  
**TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE**  
Kapacitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvencija: 110 kHz - 205 kHz  
Ulaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Izlaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Bežični izlaz: najviše 10W  
Težina: 205g

**EL - ΗΡΕΛΙΜΙΝΑΡΝΕ ΡΑΔΝΕ**  
PBMAGSF10000WIRK puni se putem isporučenoj USB-C na USB-C kabele spojenog na punjač koji uključuje USB-C PD priključak 20 W i više.

Progresivno osvetljenje LED-a pokazuje stanje napunjenosti baterije.  
Spojite PBMAGSF10000WIRK na telefon, pritisnite tipku za napajanje i nakon nekoliko sekundi na zaslonu telefona prikazaat će se stanje napunjenosti baterije.

NAPOMENA: punjenje je također dopušteno pomoću namjenskih kućišta.  
**TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE**  
Kapacitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvencija: 110 kHz - 205 kHz  
Ulaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Izlaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Bežični izlaz: najviše 10W  
Težina: 205g

**BG - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ**  
PBMAGSF10000WIRK се зарежда чрез предоставения кабел USB-C към USB-C, свързан към зарядно устройство, което предвижда порт USB-C PD 20W или по-високо.

Последователното светване на светодиодите указва състоянието на зареждане на батерията.

Свържете PBMAGSF10000WIRK към телефона, натиснете бутона за включване и изключване и след няколко секунди на екрана на телефона ще се покаже състоянието на зареждане на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: зареждането е възможно и чрез използване на съответните калъфи.  
**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Капацитет: 10000mAh – 38.5Wh  
Честота: 110 kHz - 205 kHz  
Вход (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Изход (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Безжичен изход: 10W  
Тегло: 205g

**EL - ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΠΕΡΕΙΕΣ**  
Ο PBMAGSF10000WIRK φορτίζεται μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C σε USB-C συνδεδεμένο σε φορτιστή με θύρα USB-C PD 20W και άνω.

Ο προοδευτικός φωτισμός των ενδεικτικών λυχνιών LED υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.  
Συνδέστε τον PBMAGSF10000WIRK στο τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανίσει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φόρτιση επιτρέπεται επίσης χρησιμοποιώντας ειδικές θήκες.  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΕΣΕΙΣ**  
Χωρητικότητα: 10000mAh – 38.5Wh  
Συχνότητα: 110 kHz - 205 kHz  
Είσοδος (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Έξοδος (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Ασύρματη έξοδος: 10W  
Βάρος: 205g

**CS - ПРІКЛАТКОВІ СПЕЦИФІКАЦІЇ**  
PBMAGSF10000WIRK наповнюється за допомогою кабелю USB-C на USB-C, який є частиною приєднаного зарядного пристрою з портом USB-C PD 20W або вищим.

Покрокове освітлення LED-діод вказує на стан зарядки акумулятора.  
Під'єднайте PBMAGSF10000WIRK до телефону, натисніть кнопку живлення, і через кілька секунд на екрані телефону відобразиться стан зарядки акумулятора.

ПРИП'ЯТКА: зарядку можна виконувати за допомогою спеціальних чохлів.  
**ТЕХНІЧЕСЬКІ СПЕЦИФІКАЦІЇ**  
Ємність: 10000mAh – 38.5Wh  
Частота: 110 kHz - 205 kHz  
Вхід (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Вихід (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Бездротова вихід: 10W  
Вага: 205g

**DA - INDLEDNINGSVIST**  
PBMAGSF10000WIRK lades opp ved hjelp av en USB-C-kabel som følger med og som kobles til en lader med USB-C-port PD 20W eller høyere.

Gradvis tenning av lysdiodene viser ladestatusen til batteriet. Koble PBMAGSF10000WIRK til telefonen, trykk inn på-knappen så vil displayet på telefonen etter få sekunder vise ladestatusen til batteriet.

MERK: man kan også lade med egne etuier.  
**TEKNISKE SPECIFIKASJONER**  
Kapasitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvens: 110 kHz - 205 kHz  
Inngang (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Utgang (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A  
Trådløs utgang: 10W  
Vekt: 205g

**PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES**  
PBMAGSF10000WIRK carrega-se através do cabo USB-C para USB-C fornecido ligado a um carregador equipado com uma porta USB-C PD 20W ou superior.

A iluminação progressiva dos leds indica o estado de carga da bateria.  
Ligar o PBMAGSF10000WIRK ao telemóvel, premir o botão power e após alguns segundos o ecrã do telemóvel exibirá o estado de carga da bateria.

NOTA: o carregamento também é permitido mediante caixas de carregamento específicas  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**  
Capacidade: 10000mAh – 38.5Wh  
Frequência: 110 kHz - 205 kHz  
Entrada (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Saída (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Saída wireless: 10W  
Peso: 205g

**CS - PRÍPRAVA**  
PBMAGSF10000WIRK dobija se pomoći kablu USB-C na USB-C ktery je součástí připojeným k nabíječce s portem USB-C PD 20W nebo vyšším.

Postupně rozsvícení led diod udává stav nabíjí baterie.  
Připojte PBMAGSF10000WIRK k telefonu, stiskněte tlačítko power a za několik vteřin zobrazí displej na telefonu stav nabíjí baterie.

POZNÁMKA: nabíjení je možné také s použitím k tomu určených pouzder.  
**TECHNIČKE SPECIFIKACE**  
Kapacita: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvenci pásmo: 110 kHz - 205 kHz  
Vstup (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Wireless Výstup: 10W  
Hmotnost: 205g

**SL - UVODNI POSTOPKI**  
Naprava PBMAGSF10000WIRK se polni prek priloženega polnilnega kabla USB-C na USB-C, ki je povezan s polnilnikom, opremljenim z vhodom USB-C PD 20W ali večjo.

Vključ lučke LED pomeni, da poteka polnjenje baterije.  
Napravo PBMAGSF10000WIRK povežite s telefonom, pritisnite tipko za vklop in po nekaj sekundah, da se bo na zaslonu telefona prikazalo stanje napojenosti baterije.

OPOMBA: polnjenje je mogoče tudi ob uporabi ustreznih ovitkov.  
**TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE**  
Zmožljivost: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvenca: 110 kHz - 205 kHz  
Vhodna moč (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Izhodna moč (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Izhod Wireles: najv. 10W  
Teža: 205g

**HR - PRELIMINARNE RADNJE**  
PBMAGSF10000WIRK puni se putem isporučenoj USB-C na USB-C kabele spojenog na punjač koji uključuje USB-C PD priključak 20 W i više.

Progresivno osvetljenje LED-a pokazuje stanje napunjenosti baterije.  
Spojite PBMAGSF10000WIRK na telefon, pritisnite tipku za napajanje i nakon nekoliko sekundi na zaslonu telefona prikazaat će se stanje napunjenosti baterije.

NAPOMENA: punjenje je također dopušteno pomoću namjenskih kućišta.  
**TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE**  
Kapacitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvencija: 110 kHz - 205 kHz  
Ulaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Izlaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Bežični izlaz: najviše 10W  
Težina: 205g

**EL - ΗΡΕΛΙΜΙΝΑΡΝΕ ΡΑΔΝΕ**  
PBMAGSF10000WIRK puni se putem isporučenoj USB-C na USB-C kabele spojenog na punjač koji uključuje USB-C PD priključak 20 W i više.

Progresivno osvetljenje LED-a pokazuje stanje napunjenosti baterije.  
Spojite PBMAGSF10000WIRK na telefon, pritisnite tipku za napajanje i nakon nekoliko sekundi na zaslonu telefona prikazaat će se stanje napunjenosti baterije.

NAPOMENA: punjenje je također dopušteno pomoću namjenskih kućišta.  
**TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE**  
Kapacitet: 10000mAh – 38.5Wh  
Frekvencija: 110 kHz - 205 kHz  
Ulaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A  
Izlaz (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Bežični izlaz: najviše 10W  
Težina: 205g

**SV - INFORMATION OM JURIDISK GARANTI**  
Våra produkter omfattas av en rättslig garanti för bristande överensstämmelse i enlighet med tillämpning nationella lagar för att skydda konsumenterna.

För ytterligare information se sidan www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**DA - OPlysNINGER VedRØRENDE DEN LOVBESTEMTE GARANTI**  
Vores produkter er dækket af den lovbestemte garanti, som omfatter overensstemmelsesfejli i henhold til den nationale lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Før yderligere oplysninger henvises til siden www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**NO - INFORMASJON OM RETTLIG GARANTI**  
Våre produkter er dekket av lovbestemt garanti for samsvarssfeil i henhold til gjeldende nasjonale lover som beskytter forbrukeren. Se nettsiden www.cellularline.com/en/garanzia-legale for ytterligere informasjon.

**PT - INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LEGAL**  
Os nossos produtos estão cobertos por garantia legal para os defeitos de conformidade de acordo com o previsto pelas leis nacionais aplicáveis de defesa do consumidor. Para mais informações, consulte a página www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**CS - INFORMACE O ZÁKONNÉ GARANCI**  
Naše výrobky se vztahují zákona záruka na vady shody podle platných vnitrostátních právních předpisů na ochranu spotřebitelů.

Další informace naleznete na stránce www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**SL - INFORMACIJE O ZAKONSKI GARANCIJI**  
Naši izdelki so kriti z zakonno garancijo za pomanjajljivost glede skladnosti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja za varstvo potrošnikov.

Za več informacij glejte na strani www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**HR - INFORMACIJE O JAMSTVU**  
Naši proizvodi pokrivaju se zakonskim jamstvom za nedostatke u skladu s nacionalnim zakonima koji se primjenjuju za zaštitu potrošača.

Više informacija potražite na stranici www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОННОСТАВНАТА ГАРАНЦИЯ**  
Нашите продукти се покриват от законоустановената гаранция за липса на съответствие, както е предвидено в приложимото национално законодателство за защита на потребителите.

За повече информация посетете страницата www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΧΗ**  
Τα προϊόντα μας καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση για ελλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από τους εφαρμοζόμενους εθνικούς νόμους για την προστασία του καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε τη σελίδα www.cellularline.com/en/garanzia-legale

**DA - INSTRUKTIONER FOR BORTSKAFFANDE AF APPARATER FOR ANVENDERE I PRIVAT HUSHÅLL**  
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separat indsamlingsystem)

Denna märkning på produkten eller på dets dokument anger att produk